



سوال

(59) نبی ﷺ کا امتی بننے کی آرزو

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا یہ ثابت ہے کہ انبیاء نے محمد ﷺ کا امتی ہونے کی دعا کی تھی؟ اس امت کی فضیلت کی وجہ سے (تمہارا بھائی: شوکت)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ابن جوزی کی کتاب الوفاء (1 39-40) میں دیکھا۔

کعب الاحبار سے مروی ہے انہوں نے ایک یہودی عالم کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: آپ کیونکہ رورہے ہیں کہنے لگا ”مجھے کوئی بات یاد آگئی اس لیے رورہا ہوں“ تو کعب نے کہا اللہ کی قسم اگر میں بتا دوں کہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے تو تصدیق کرو گے؟ اس نے کہا ہاں فرمایا: تجھے اللہ کی قسم کیا تو اللہ کی نازل شدہ (تورات) میں یہ پاتا ہے کہ ”موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا تو فرمانے لگے مجھے اس میں ایک ایسی امت کا تذکرہ ملا ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی بہترین امت وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، پہلی اور پچھلی سب کتابوں کو ملتے ہیں وہ گمراہوں سے قتال کرتے ہیں یہاں تک کہ دجال کانے سے بھی قتال کریں گے یا اللہ میری امت بنا دے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو احمد ﷺ کی امت ہے، یہودی عالم نے کہا: ہاں پھر فرمایا: میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تو اللہ کی نازل شدہ کتاب میں یہ پاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں نظر دوڑائی اور فرمانے لگے: اے رب میں ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں جو بہت زیادہ حمد کرنے والے، سورج کی وعایت کرنے والے، جب کسی کام کا ارادہ کریں تو قیامت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے اور کہتے ہیں ان شاء اللہ کر کے چھوڑیں گے، یا اللہ میری امت بنا دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تو احمد ﷺ کی امت ہے، یہودی عالم نے کہا ہاں (ٹھیک ہے) پھر فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تو اللہ کی نازل شدہ میں یہ پاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نظر ڈالی اور فرمانے لگے: اے میرے رب میں تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ وہ جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور جب وادی میں نیچے اترتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، مٹی ان کے لیے طور ہے اور زمین ان کے لیے مسجد ہے وہ جہاں کہیں ہوں، جنات سے طہارت کرنے والے ہیں مٹی ان کے لیے پانی کی طرح ہی طور ہے، جب انہیں پانی نہلے، وضو کی وجہ سے وہ (قیامت میں) غر مجل ہونگے یا اللہ اسے میری امت بنا دے، فرمایا: اے موسیٰ! وہ تو احمد ﷺ کی امت ہے، یہودی عالم نے کہا ہے ہاں (درست ہے) میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تو اللہ کی نازل شدہ کتاب میں یہ پاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا اور فرمانے لگے اے میرے رب مجھے تورات میں امت مرحومہ کا تذکرہ ملتا ہے جو ضعفاء ہیں اور وہ اس کتاب کے وارث بننے کے جو تو نے ان کے لیے چن لی ہے، ان میں کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہونگے کچھ میانہ رو ہونگے اور کچھ بطلانی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہونگے میں ان سب کو مرحوم (رحم کیے ہوئے) پاتا ہوں یا اللہ اسے میری امت بنا دے۔

فرمایا: وہ تو احمد رضی اللہ عنہ کی امت ہے، یہودی عالم نے کہا ہاں (درست ہے)۔

پھر فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تو اللہ کی نازل شدہ کتاب میں یہ پاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات میں دیکھا اور فرمایا اسے میرے رب مجھے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ ملتا ہے کہ مصاحف ان کے سینوں میں ہوں گے اور وہ نمازوں میں ملائکہ کی طرف صفت ہونگے، مسجد میں ان کی آوازیں شہد کی مکھڑوں کی بجھناہٹ کی طرح ہونگی، کوئی بھی ان میں آگ میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو نیکیوں سے اس طرح بیزار ہے یا اللہ اسے میری امت بنادے۔

فرمایا یہ تو احمد رضی اللہ عنہ کی امت ہے تو یہودی عالم نے کہا ہاں (درست ہے)

جب موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دی جانے والی خیر پر متعجب ہوئے تو کہنے لگے: کاش میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راضی کرنے کے لیے تین آیتیں وحی کی۔

یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَصْطَفٰیْتُکَ عَلَی النَّاسِ بِرِسَالَتِیْ وَبِکَلٰمِیْ ۱۴۴ ... سورة الاعراف

ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ! میں نے پیغمبری اور ہمکلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز ہے، (اعراف 144) اس قسم کی روایت ابن جوزی وفاء (1 38) میں مرفوعاً لائے ہیں اور اس کی سند میں کمزوری ہے۔

انبیاء کی تعظیم کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قسم کے واقعات کرنا جائز ہے۔ اسی طرح معالم التنزیل (2 205) ابن کثیر (سورة اعراف: 2 157) میں بھی ہے

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ

فتاویٰ الدین الخالص

ج 1 ص 136

محدث فتویٰ